


حروفِ اضافه

میانِ شکیل و کریم	برایِ دوست	بیرون / بیرونِ مدرسه
از بازار	در خانه	بامحمود
درونِ خانه	پیشِ مسجد	تا خانه
روی میز	برایِ احمد	عقبِ مدرسه
توی		



- کتابِ احمد بر میز است.
- برادرِ محمود در خانه نیست.
- قلم در جیب است.
- شاهد در کوچه نیست.
- این قلم برایِ حامد است.
- کشتی در دریا است.
- اکرام بر صندلی است.
- مدرسه در عقبِ مسجد است.
- خانه احمد پیشِ خانه حامد است.
- توی کیسه چیست؟

راہ نمائی (یاد کیجیے)

معنی	الفاظ	معنی	الفاظ	معنی	الفاظ
اندر	توی	اندر	بہ	ساتھ	با
سامنے	پیش	لیے / واسطے	بہر۔ برایے	پر / اوپر	بر
گھڑی / گھنٹہ	ساعت	باہر	بیرون / ابرون	تھیلا	کیف
تھیلی	کیسہ	نوٹ	پول کاغذی	تک	تا
کرسی	صندلی	سامنے	جلو	گلی	کوچہ
☆	☆	☆	☆	اندر	اندرون درون در

تمرین

(الف) نیچے دیے ہوئے جملوں کا فارسی میں ترجمہ کیجیے:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| (۱) شاہد حامد کے ساتھ ہے۔ | (۲) نوٹ جیب میں ہے۔ |
| (۳) گھڑی میز پر ہے۔ | (۴) کریم گھر میں ہے۔ |
| (۵) تصویر دیوار پر نہیں ہے۔ | (۶) پنسل جیب میں ہے۔ |
| (۷) حامد مسجد میں ہے۔ | (۸) تھیلے میں کیا ہے؟ |

(ب) نیچے دیے ہوئے مصادر اور ان کے معنی لکھیے:

پرسیدن	:	پوچھنا	:	پرداختن	:	مشغول ہونا
پروردن	:	پالنا	:	پختن	:	پکانا
پوشیدن	:	پہننا	:			

ہدایت برائے اساتذہ:

اساتذہ کرام طلباء کو ذہن نشین کرائیں کہ اردو میں مجرور پہلے اور حرف جار بعد میں آتا ہے۔ لیکن فارسی میں یہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ جار اور مجرور کی تعریف طلباء کو یاد کرا دی جائے۔ حرف جار کو حرف اضافہ بھی کہتے ہیں۔

